



جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے آپ (ﷺ) نے یہ بات تین بار فرمائی (پھر فرمایا) اگر مرد نے ایسی عورت سے دخول کر لیا، تو اس دخول کے عوض عورت کے لیے اس کا مہر ہے اور اگر ولی آپس میں اختلاف کریں، تو بادشاہ (حاکم وقت) اس کا ولی ہے، جس کا کوئی ولی نہ ہو۔
 [صحیح] [اسد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اسد امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسد امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسد امام احمد نے روایت کیا ہے - اسد امام دارمی نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں نبی ﷺ نے نکاح کی صحت کے لیے ولی کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے، اس طرح کے خود عقد نکاح کرے، تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہے اگر اس طرح کی شادی میں وطی و ہم بستری ہو جاتی ہے، تو مرد و عورت کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی اور اس ہم بستری کی وجہ سے عورت مہر کی مستحق ہوگی پھر نبی ﷺ نے بیان کیا کہ اگر عورت کے ولی شادی سے متعلق اختلاف کریں یا خود عورت اپنے ولیوں سے اختلاف کرے، تو اس کا معاملہ سلطان کی طرف منتقل ہو جائے گا اور جس کا ولی نہ ہو سلطان اس کا ولی ہوگا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58067>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

